



سوال

(278) عورت اعتکاف کہاں بیٹھے مسجد میں یا گھر؟ (چند اعتراضات کا جائزہ)

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مقتیان شرع متین کہ عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک دوجید علماء کی طرف سے یہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس فتویٰ کی بناء پر کچھ کم علم لوگ یہاں تک کہ گئے ہیں کہ گھر میں عورت کا اعتکاف بیٹھنا گناہ اور بدعت ہے۔ اس ضمن میں مجھے خیال آیا کہ پوری تحقیق کرنا ضروری ہے کیونکہ اکثر عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی آتی ہیں اور اب بھی کرتی ہیں۔ میرا علم چونکہ ناقص ہے۔ اس لیے

فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ۴۳) کے تحت عرض کرتا ہوں۔

(۱) اللہ پاک نے قرآن پاک میں روزہ کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ **وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرِبًا وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرِبًا وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرِبًا وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرِبًا** (البقرہ: ۱۸۴)

”اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو تو رات کو بھی اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔“

یہ حکم کہ مسجدوں میں ہی اعتکاف کرو! موجود نہیں ہے۔ جس میں ہم عورتوں اور مردوں کو برابر کا شامل کر سکیں۔ برعکس اس کے قرآن پاک میں فرض نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ الرَّكْعَتَيْنِ** (البقرہ: ۴۳) موجود ہے۔ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھیں۔ مگر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہاں حضرت کا فرمان موجود ہے تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ فرضی نماز کے متعلق تو حکم ہوا کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے۔ مگر اعتکاف جو کہ نفلی عبادت ہے اس کے لیے عورت کو مسجد کی پابندی کا حکم کیوں؟ اور کس دلیل سے؟ یعنی قرآن پاک کی کس آیت کے ماتحت یا کس حدیث کے ماتحت۔

۱۔ **وَأَنْتُمْ عِظُونَ فِي التَّحِيَّةِ** حکم نہیں ہے۔

۲۔ عورتوں کا مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ذکر نہیں۔

۳۔ فرضی عبادت عورت کی گھر میں بہتر ہے۔ نفلی عبادت اعتکاف کے متعلق مسجد کی پابندی کیسے ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

(۲) علاوہ ازیں میرے ذہن میں چند ایک سوالات آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جوابات ملنے سے یہ مسئلہ واضح ہو سکتا ہے۔ اور حل ہو سکتا ہے۔

۱۔ امہات المؤمنین کا اپنے خاوند نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے علاوہ کتنی صحابیات مسجد میں اعتکاف کرتی رہیں۔ ان کی فہرست مل جاوے تو یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ امہات المؤمنین کی سنت پر کتنی صحابیات نے عمل کیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ امہات المؤمنین کی سنت جاریہ ساریہ رہی۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ کی بیویاں آپ کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اگر اس کی وضاحت مل جاوے کہ وہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی مسجد میں ہی کرتی رہیں



تو بھی مسئلہ صاف ہو سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ توامہات المؤمنین تھیں۔

۳۔ نبی کریم ﷺ کا اگر فرمان مل جاوے کہ عورتیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کریں؟

۴۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح نبی کریم ﷺ کی بیویاں اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ اگر کسی عورت کا خاوند مسجد میں معتکف ہو تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے ورنہ نہیں تو ہر عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے پر ہم کس دلیل سے پابندی لگا سکتے ہیں۔ کسی صحابیہ نے خاوند کے بغیر مسجد میں اعتکاف کیا؟

۵۔ جب کہ عورت کی آواز غیر محرم نہ سنے، کے تحت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر امام بھول جاوے تو عورت لفظ **نُحْجَانُ اللہ** نہ کہے بلکہ لٹے ہاتھ سے تالی لگائے تاکہ غیر محرم اُس کی آواز نہ سنے۔

۶۔ پردہ کی پابندی کے سلسلہ میں فرمایا کہ ان کی چادریں لٹکتی جائیں تاکہ کسی آدمی کی نظر ان کی ایڑیوں پر بھی نہ پڑے۔

۷۔ کیا اس مسئلہ میں ہمارے پاس قرآن پاک کا واضح حکم یا نبی کریم ﷺ کی واضح حدیث موجود ہے؟

(۳) علامہ وحید الزمان جنھوں نے کتب احادیث کا ترجمہ اور تشریح کی ہے اور ہمارے اہل حدیث بھی اُس کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول جو کہ ”سنن ابی داؤد“ مترجم علامہ وحید الزمان جلد: ۲، ص: ۲۷۸ میں ہے۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”جامع مسجد کی شرط کا راوی عبدالرحمن بن اسحاق کے علاوہ کوئی بھی قائل نہیں ہے۔“

۲۔ ”سنن ابی داؤد“ مترجم علامہ وحید الزمان (جلد: ۲، ص: ۲۷۵) اعتکاف کے باب کی پہلی حدیث جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: **”ثُمَّ اغْتَنَفَتْ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ“** (صحیح البخاری، باب **الاعتکاف فی العشر الاواخر، والاعتکاف فی النساء کلہا، رقم: ۲۰۲۶، سنن ابی داؤد، باب الاعتکاف، رقم: ۲۳۶۲**)

اس پر علامہ صاحب فائدہ میں لکھتے ہیں۔ (پھر اعتکاف کیا حضرت کی بیویوں نے یعنی اپنے گھروں میں، اس لیے کہ فقہاء نے کہا ہے کہ مستحب ہے عورتوں کو کہ اعتکاف کریں مسجد البیت میں اور اگر مسجد البیت نہ ہو تو ایک جگہ کو گھر میں مسجد ٹھہرا کر اُس میں اعتکاف کریں۔ پس وہ ان کے حق میں حکم مسجد کا رکھتی ہے۔ بلا ضرورت اُس میں سے نہ نکلیں۔

۳۔ بخاری شریف مترجم علامہ وحید الزمان جلد: ۲ صفحہ ۳۲۲، باب اعتکاف النساء پر نمبر ۳۷۰ کے حاشیہ میں لکھا ہے (امام شافعی رحمہ اللہ نے ان مسجدوں میں جہاں جماعت ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنا مکروہ جانا ہے۔ البتہ اگر اس کا خاوند بھی وہاں اعتکاف کرے تو اس کے ساتھ مکروہ نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ اور اپنے گھر کی مسجد میں ہر طرح عورت کو اعتکاف کرنا درست ہے۔)

۴۔ بخاری شریف مذکور کے صفحہ ۳۲۰ پر حاشیہ نمبر ۲ میں علامہ صاحب نے محمد بن عمر مالکی کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔

عرض: مندرجہ بالا حوالہ جات میں نے اس لیے تحریر نہیں کیے کہ یہ فیصلہ کن ہیں۔ صرف اس لیے تحریر کر دیے ہیں کہ ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ مدلل اور باحوالہ فتویٰ صادر فرمادیں۔

نوٹ: حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام اور باب اور صفحہ درج فرمادیں تاکہ آسانی سے تلاش کیا جاسکے نوازش ہوگی۔ منجانب (ماسٹر احمد دین۔ کوٹ رادھا کشن) (۲۲ مارچ ۱۹۹۶ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال



و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سب سے پہلے اہل شرع کے ہاں اعتکاف کی تعریف ملاحظہ فرمائیں تاکہ اصل مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

‘الْمَقَامُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مُخْصٍ عَلَى صِفَةٍ مُخْصِيَةٍ۔‘

”یعنی مخصوص شخص کا مخصوص صفت پر مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔“

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ شرعی اعتکاف صرف اس صورت میں اعتکاف قرار پائے گا جب وہ مصطلح حقیقی مسجد میں ہو مجازی جائے نماز کو مطلقاً اس سے کوئی عمل دخل نہیں۔ اس طرح تو چند مخصوص مقامات کے علاوہ روئے زمین کو بعض احادیث میں جائے نماز قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

‘بُجِّلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَنُزًا۔‘

”ہاں وجہ تو کیا ساری زمین پر اعتکاف کا جواز ہے؟ ہرگز نہیں۔“

اسی طرح محل نزاع میں سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب و سنت کی نصوص میں جس مسجد کا ذکر ہے وہ اصطلاحی مسجد ہے جس کے اپنے احکام و مسائل و آداب ہیں، جن کی صراحت کتب احادیث کی ورق گردانی سے مل سکتی ہے۔ وہاں جنبی آدمی اور حائضہ کو داخل ہونا ممنوع ہے۔ دوسری طرف عورت کی گھر میں نماز کی فضیلت پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے گھر میں اعتکاف کا جواز پیدا کرنا بھی غیر معقول بات ہے تو کیا خیال ہے۔ مرد کی نفلی نماز بھی تو گھر میں افضل ہے جب کہ اعتکاف بھی غیر واجب ہے۔ پھر تو مردوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا جواز ہونا چاہیے شاید کہ اس بناء پر فقیہ محمد بن عمر بن لباب مالکی اس بات کے قائل ہو گئے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا وجود شرط نہیں۔

اس بارے میں یقیناً آپ کا جواب بھی نفی میں ہو گا تو اس مذہب کو محض نقل کر دینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا اور حنفیوں کے نزدیک چونکہ عورت کا طریقہ عبادت گھر کی چار دیواری تک محصور ہے اس بناء پر ان کا مذہب کہ عورت مسجد البیت (گھر کی مسجد) میں اعتکاف کرے معقول ہے۔

اس کے باوجود بعض فقہاء حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں بھی درست ہے۔ چنانچہ (نیۃ المفتی) میں ہے:

‘لَوْ اُغْتَكِفَتْ فِي الْمَسْجِدِ جَازٌ۔‘

اور ”البدائع“ میں ہے:

‘لَمَّا اَنَّ تَغْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ۔‘

تعب ہے علامہ وحید الزمان جیسی فاضل شخصیت سے آخری دور حیات میں تقلیدی محمود سے آزاد ہونے کے باوجود وہ بلا استناد مسلک کے کس طرح قائل ہو گئے۔ ‘لَمْ اُغْتَكِفْ اَزْوَاجٌ مِنْ بَنَدٍ کی تشریح یہ کرنا کہ ”پھر اعتکاف کیا حضرت کی بیٹیوں نے یعنی اپنے گھروں میں“ سراسر نص حدیث سے زیادتی ہے جس کا کوئی اصل نہیں۔ دراصل اس کی بناء محض بعض فقہاء کے مذہب پر ہے جس کا کوئی اصل نہیں۔

صاحب ”المرعاة“ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:



اَمَى مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ اِحْيَاءُ لِسُنَّتِهِ وَالْبَقَاءُ لَطَرِيقَتِهِ - (۳۱۰/۳)

یعنی ازواج مطہرات نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد اعتکاف آپ ﷺ کی سنت اور طریقہ کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اب ہر فرد غور و فکر کر سکتا ہے کہ اعتکاف میں آپ ﷺ کی سنت اور طریقہ کار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جملہ امور کا تعلق مسجد سے ہے نہ کہ گھر سے۔

لہذا ازواج مطہرات کے فعل کو گھر پر محمول کرنا سراسر باطل ہے۔

کیا ازواج النبی ﷺ نے آپ ﷺ کی زندگی میں اعتکاف بیٹھنے کا عزم مسجد میں کیا تھا۔ یا گھر میں؟ ”صحیح بخاری“ وغیرہ کی احادیث واقعاتی طور پر اس امر پر شاہد ہیں کہ اس سارے قصے کا تعلق مسجد سے ہے۔ تو پھر آپ ﷺ نے اس فعل پر نکیر فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ سو یہی روایت عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے جواز کی واضح دلیل ہے۔

”فتح الباری“ میں ہے :

”اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا غَسَّطَتْ فِي الْمَسْجِدِ انْتَجَبَ لَهَا اَنْ تَجْعَلَ لَهَا يَنْسَرُهَا وَيُشْرَطُ اَنْ تَكُونَ اِقَامَتُهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُصْنَعُ عَلَيَّ الْمُصَلِّينَ - (۲۷۷/۴)

البتہ اس سال کسی دوسرے سبب سے آپ ﷺ نے اعتکاف ترک کر دیا تھا جس کا متنازعہ فیہ مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جن لوگوں نے عورت کے مسجد میں اعتکاف کے لیے خاوند کے وجود کی شرط لگائی ہے۔ یہ بھی کمزور مسلک ہے۔ اس لیے کہ جب یہ امر مسئلہ ہے کہ ازواج مطہرات نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کیا ہے اور قرآن میں ان کے بارے میں یہ حکم بھی موجود ہے :

وَلَا اَنْ تَتَخَوَّاْ اَزْوَاجِهِمْ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا ... ۵۳ ... سورة الاحزاب

”اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔“

تو اس سے معلوم ہوا عورت اکیلی بھی بلا وجود خاوند اعتکاف کر سکتی ہے۔

یہ بھی یاد رہے عہد نبوت میں کئی ایک صحابیات مسجد نبوی ﷺ میں رہائش پذیر تھیں۔ ملاحظہ ہو ”صحیح بخاری“ وغیرہ اس سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ عورت کا قیام مسجد میں ممکن ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ عورت پردہ ہے۔ بلاشبہ وہ پردہ ہے لیکن جہاں تک اس کی آواز کے پردہ ہونے کا تعلق ہے، سو یہ محل نظر ہے کیونکہ بہت ساری صحابیات وقتاً فوقتاً آپ ﷺ سے مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔ کبھی آپ ﷺ نے انکار نہیں فرمایا کہ عورت کی آواز تو پردہ ہے۔

قرآن میں بھی ازواج مطہرات کو غیروں سے گفتگو اور مکالمہ کی بایں الفاظ اجازت مرحمت کی گئی ہے : **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ (الاحزاب: ۳۲)** (کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کریں)

نیز فرمایا : **فَسْتَلْوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ (الاحزاب: ۵۳)** اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس سے موصوف نے عورت کی آواز کے پردہ ہونے کی دلیل لی ہے۔ **(وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ -)**

دراصل مرد و زن میں یہ تفریق نسوانیت کے کمزور پہلو کی بناء پر ہے کہ بسا اوقات اچانک زبان سے بولنا عورت کے لیے گراں ہوتا ہے۔ اس بناء پر اس کی تالی کو مرد کے بولنے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے :

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الزخرف: ۱۸)



نیز احتمال ہے کہ یہ تفریق تعبدی (عقل سے بالاتر حکم) ہو۔ باقی رہا صاحب موصوف کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں مسجدوں میں اعتکاف کا حکم موجود نہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے فہم کے خلاف ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ آیت ہذا سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کی تشریحوں فرماتے ہیں :

‘وَوَجَدَ الدَّلِيلَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَخْتَصْ تَحْرِيمُ الْمَسْجِدِ بِإِنِّهِ لَأَنَّ الْجَمَاعَ مُنَافٍ لِلْإِعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ فَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ الْمَسْجِدَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهِا -‘

یعنی آیت ہذا سے وجہ دلالت یہ ہے کہ اعتکاف اگر مسجد کے علاوہ بھی درست ہو تو پھر اس کو مباشرت کی حرمت سے مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جماع بالاجماع اعتکاف کے منافی ہے تو مساجد کے ذکر سے معلوم ہوا مراد اس سے یہ ہے کہ اعتکاف مسجدوں سے مخصوص ہے۔“

اس بناء پر ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری رقمطراز ہیں :

‘وَأَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوطِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِلْإِعْتِكَافِ -‘ (فتح الباری: ۲/۴۲۲)

یعنی ابن بابہ کے ماسوا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا وجود شرط ہے۔“

وَأَجَازَ الْخَفِيَّةُ لِلْمُرَادِ أَنَّ تَعْتِكَافَ فِي مَسْجِدِنَا وَهُوَ الْكَانَ الْمَعْدُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ وَفِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَدِيمٌ

پھر صفحہ ۴۷۷ پر فرماتے ہیں

‘وَفِيهِ أَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطٌ لِلْإِعْتِكَافِ لِأَنَّ النِّسَاءَ شَرَعَ لِهِنَّ الْإِجْتِهَابَ فِي الْبُيُوتِ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ شَرْطًا مَاقَعٌ نَادِرٌ مِنَ الْإِذْنِ وَالنِّسَاءُ لَا كُنْتُنَّ لِهِنَّ بِالْإِعْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِنَّ -‘

نیز حدیث ‘إِذَا غَتَّكَ أَوْنِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ‘ میں بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد کے ماسوا غیر درست ہے۔ چنانچہ ”المرعاة“ (۳/۳۱۳) میں ہے :

‘وَفِيهِ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالْإِلَّا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ لِمَنْ جَلَّ الرَّأْسُ‘

یعنی ”اس حدیث میں دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ غیر درست ہے ورنہ آپ ﷺ کے لیے ممکن تھا کہ سر مبارک کی کٹھنی کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔“

پھر قرآنی عموم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا جواز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ہاں البتہ عبد الرحمن بن اسحاق (جس کی توثیق ابن معین نے کی ہے) اس کی روایت کی بناء پر بعض اہل علم کا کہنا ہے۔ ”اولیٰ یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہو۔“

اور بعض دیگر نے واجب قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”الاروائی“ میں روایت ہذا کو صحیح کہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (المرعاة: ۳/۳۲۹)

یاد رہے فتنہ و فساد کے ڈر سے اگر عورت اعتکاف مطلقاً چھوڑ دے تو پھر بھی درست فعل ہے۔ تاہم اعتقاد جواز بہر صورت قائم رہنا چاہیے۔ عمل کی نوبت نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں۔ موجودہ دور میں الحمد للہ (جملہ تحفظات کے ساتھ مسلک اہل حدیث کی کتنی مساجد میں عورتوں کے اعتکاف کا سلسلہ سالہا سال سے جاری و ساری ہے۔ اس کی واضح مثال ہماری مسجد واقع قصبہ سرہالی کلاں ضلع قصور ہے۔ یہاں عورتوں کی ایک معقول تعداد ہر سال اعتکاف میٹھتی ہیں۔ اخیر میں یہ بھی یاد رہے کہ کسی مسئلہ کے اثبات کے لیے کتاب و سنت کی نصوص ہی اہم ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق بعد میں افراد امت کا عمل مل جائے تو سونے پر سہاگہ ہے۔ اور اگر نہ بھی دستیاب ہو تو اسی کو حرج جان سمجھ کر عمل جاری رہنا چاہیے۔



صاحب ”المرعاة“ رقمطراز ہیں :

’وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ النَّاسَ إِذَا تَرَكَوا الْعَمَلَ بِسُنَّةِهِ مَا يَمْنَعُهُمْ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُمْ دَلِيلًا تَرُدُّ بِهِ السُّنَّةَ قَالَ النَّوَوِيُّ إِذَا ثَبَتَتْ السُّنَّةُ لَا تَمْتَرُكَ لِمَنْ تَرَكَ عَمَلَ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ‘ (۳/۲۷۹)

لہذا ازواج مطہرات کے بعد عامل صحابیات کی فہرست اگر نہ بھی میسر آئے تب بھی اصل مسئلہ پر زور نہیں پڑتی جس طرح صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے بلا سفر مدینہ میں جمع بین الصلوٰتین پر عمل کیا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب ”العلل“ میں فرمایا: یعنی احادیث کو میں نے اپنی سنن میں جمع کیا ہے۔ سب پر امت میں سے کسی نہ کسی کا عمل ہے۔ ماسوائے دو حدیثوں کے جن میں سے ایک مشارا لہ روایت ہے اس کے باوجود بعد میں کئی ایک محققین وقتاً فوقتاً اس پر عمل کے قائل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے اور نسخ وغیرہ ثابت نہیں ہو سکا۔

اللہ عزوجل حملہ مسلمانوں کو کما حقہ کتاب و سنت کا فہم نصیب فرما کر خیر الواری احمد مجتبیٰ رحمہ اللہ کے طریقہ مسلوکہ کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حاکم ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 261

محدث فتویٰ